



# پرس و پرسنگ

ژ برستادا: عبدالسلیمان نامیتدی  
زانکویا دهزک - کولیزا پهرودردا بنیات

## نه ری بوجی نه زا ۹۹ دلم؟

نه قه بوماوی ۲ ههیقانه نه ز ده زکریی دا و من ب که یشا خوه هه قالی خوه ین هه لبڑارتی بهلی هه روزا خازگینیا، نانکو هه ده ماوی ده زکریی دا نه ز یا دوو دل بسوویم، نه کو کیماسیه ک یان قوسیریه ک لدهف هه قالی من هه یه و جو ره نه نارامیه ک یالدده من بمهیدا بسوی و من پرسیارا هندده کین وه کی خوه کریه دبیزن نه وه تشنہ کی سروشتی یه. و هندده کین دی دبیزن نه قه دوخه کن ده رونسی یه و دی چن بیت، بهلی ده رقی چهندی را هندده ک جارا و هل من دهیت کو نه ز دبیزم نه قه ماوی هه فناسینی یه دنافبه را مهدا و نه ز دی لیقه بم

خوشکا همه وه  
س. محمد مدد

### خویشکا ریزدار س. محمد مدد

من حه زدکر ریس ته و ناستی ته بین خواندنی مه زانی با، لی نه ز دبینم کو ده من سی هه ییش هیشتا کیمه بو نه ز ده تر هه فناسینا هه قدوو. راسته نه قه ده من سی هه یقایه تو یا ده زکرییدا، لی هه روه کو مه دیارکری کو ده مه کن دریز بیندیه بو قی چهندی، و لدویف ناما ته خوبیا بسویه کو ته بخو هه قالی خوه ده ستیشان کریه لی نه ز نز انم لدویف رج مه رجا بسویه و ل سه رج بنیاته کن.

هیقیدارم دوو دل نه لی، هزره کا باشت و کیر تر تیدا بکه، و نه ز دگه ل وان هه الیت ته مه بین گوتینه ته نه قه کاره کن سروشته و بیندیه بیریارن بله ز نه دهی و ده مه کن دی خوه بکره دا باستر هه قدوو بنیاسن، و لیقه بیون نه کاره کن بساناهی یه، و ناریشه ری چیدبن، لهورا یا باش نه وه ده مه کن دی بدهیه خوه بو هزرکرنی و ده رفته کادی ری بدده خوه، پاشی دانوستاندنی دگه ل دهیک و بابن خوبکه، و نه که رباری ته بین ده رونسی نارام نه بیو، هیقیه بچی سه ره دانه کا پسیوره کن ده رونز انى بکه بیو دانوستاندنی.  
هیقیا به ختمه وه ریه بیو ته دخوازین

## خیزانا من ریگرن بهرام بهر نارهزویین من

نه ز ده رجوبیا په یمانگه ها هونه رین جوانم و نه ز جوویمه قنبری چونکی لسهدده من من په یمانگه ها مامؤسایان نه بیو و من شیانین قوتا بخانا ناماده بی نه بیوون لهوما مال گوته من هه ره په یمانگه ها هونه رین جوان و بیه مامؤسایا هونه ری ل قوتا بخانه کا سه ره تایی. و هه ر خوشی و فیسته قال و سه ره اران و ناهه نگین په یمانگه هن نه زا ری بی بهر بیووم، چونکی دابیزنه من نایبیت تو سوچه تا قان نشنا بکه، بنتن دی خوبینی تاکو ده رجی و نوکه زی باشه نه ز مامؤسایه. بهلی دسه رقی ههندی را هندده ک جارا من دقت نه ز به سداری دوینه گری و چیکرنا په یکه رو ویندا بکه م کو بازیری مه پی بهیته خه ملاندن بهلی هه رديسان دی دبیزنه من نه وه بیت فی باسی بکه نه که ر ته دقت بیه بیاغکه ر وره دیوارین مه بیویاغ بکه. نه ری باشه نه ز ج بکه و دی چاوه قانه ته گه هیم کو نه قه نه ریکه نه وا وان بیو من هه لبڑارتی نه قجا بوجی ناهیان نه ز بیو خوه کی خوه بریقه بیم. خوشکا وه ز. عه لی

خویشکا به ریز ز. عه لی  
هونه رمه ند خودان هه سته کن نازکه، زیه رقی چهندی دقت  
تو شیانیت خوه بمه زیخی بیو ملهه ته خوه بریکا خه ملاندنا  
بارزیری خوه.

زیه رکو ناسته نگ هنه دریکا نه دا بیو نه نجامدانا حه زا ته، لهورا تودشینی بریکا قوتا بخانا خوه قی چهندی بجه بینی. خویشکا من ده منی خیزانا ته دخوازیت پیکری ب رینما و شیره نین وان بکه، بیندیه به رده وام پیکولین و دانوستاندنی دگه ل بکه، بیو خویا بکه کو کاری ته نه بیویاغکرنا دیوارایه به لکو کاره کن زانستیه و هیچ شاشی تیدا نینه، و یا باش نه وه کو پینگا فا نیکن دگه ل دهیک بکه دا بیته لایه نگرا ته و پاشی هوین دی بنه دوو ده نگ و دی شین ره زامه ندیا بابی ته ری وه ریگرن، لی بیندیه نه که کاره هیندی هیندی بیت ز به رکو هیشتا زور ز دهیک و بابان نه گه هشتبینه راستیا وی چهندی کو هونه ری پشکه کا گرنگه ری زانین و زانستی خوه زمه نه کا پیرۆزه بیو مرؤفایه تی.

سه باره ت بی به هر بیوون ته ری چهندین ده رفه تین دلخوش بدمیتا من هیشتا تو یا ل ده ستینکا زیانها خوه یا کاری و زیانها خوه یا که سی لهورا بسنانه هیبا خودی ده رفه تین خوشتر و دلخه که رتر بیو ته دی هه بن، ویا ره سبین نه بله، به لکو به ره قاری بچاوه کن روه نتر ته ماشای زیانه بکه، سه رکه قتنی بی..

بابی من ل جهیز من کولیزا

## من دهه لبیزیست !

نهز قوتاپی بیووم ل قوناغاشهشی ناماشهیین و ل سه رقوتابخانا خوه یسی نیکی بیووم و همراه سال ب لیلیورین دهرباز بیووم بهلی پشتی موندیالین تمهیانی ۱۹۹۸ ده رکه فتی و لدهمی نهزمونین وزاری و وان نهزمونین دوماهیین روزه کی گهرا وی نیمی بیو نهوا من حهز زی دکر و بی کومان من همه می دهمی خو بی خواندنی ته رخان کربیوو و بتنی لدهمی خوارنی من بینهنا خو فه دادا بهلی روزه کی ته بیانی ده رکه فت و من زی ته ماشه کر دهیک و بابین من دا هله رین و چن و دابیزند من دی هلو بخوبیه بهس بهری خو بدی . TV من زی ژ که رب و عینجزیادا نهزموناخونه کر و نهوزی پشتی وان شهربی من کری و گوتیه من تو ناخوینی .... لهوما من زی سویند خوار کو نه ز نه چم نهزمونا و دسه روی چه قالین من گوت بکه من نه کر و دیسان خولا دووی زی نه ز نه چووم وی سالی من خو هنلا سلا پاستر نه ز نیک ژ دهه لسهر کوردستانی ده رکه فتم و نافی من بی کولیزا پزیشکی ده رکه فت بهلی من نه ژ کولیزه نه دفیا به لکو من کولیزا نهند ازیاری دقیا بهلی هه ردیسان بابی من نه هنلا و گوت برایه کی ته (نهند ازیاره) و نیک زی (بارزه ره) و خوشکه کا ته (مامؤستایه) لهوما دقیت تو زی بیه نوردار نه ز نه چاربیووم چوومه کولیزا پزیشکی و من نه دخواند نه ز ساقت بیووم و نوکه زی نه ز ناجم و من نه فیت بچم وی کولیزی و دیسان نه ز نزام دی ب ج شیوه مال رازی که، ره زامهندیا خو دیار بکن کو نه ز بچم وی جهی من دقیت هه قالی همه و سه ریه است . ح

برایی به ریز سه ریه است . ح

که کن سه ریه است پشتی من ناما ته بتیر و تمهسلی خواندی، بیو من دیار بیو کو تو که سه کی زیره ک و نیکه هشتی، لهورا کاره کی سه بیره کو تو فی هه لویستی و هر دگری به رامبه رته، زیه رکو پیدقیه بزانی کو پینکولین و شیره تین دهیک و بابی ته ژ بیو به رزه وندیا ته بیویه، و نهوا نه ز دزانم کو و هرزش قان و حه زیکه ری وی سینگی وان و بینهنا وان یافره هه، لهورا نه ز ب باش دزانم کو تو خو ل وی چه ندی به رزتر دابنی کو شیره تین دهیک و بابی خو ب شاشی شرمه بکهی، و هیقیدارم ب میشکه کن شارستانی فی چه ندی بزانی، نه که همه می زلایه کی فه و زلایه کی دقیه نورداری پنجه بیه کا مروفاتی بیه ویا پیرزه، ما ج نیدایه کو تو کولیزا پزیشکی ب سه رکه فتیانه بدمه ماهیک بینی و پاش پسیوریا هسیر ل خواندنا باند و هر بگری، بیه پزیشکه کی و هرزشی و تاییه نهندیا و هرزشی دبواری پزیشکیدا بجه بینی، و بلا نه و سالی کول کولیزا پزیشکی ده رنه چووی ببیته پالدله ره ک بیو زینده تر هزرگرن ل پاشه روزه خو، و بدیتنا من پزیشکین دبواری و هرزشیدا کاردکهن زور دکینم، ویانه و هرزش قانینه مه زور پیندی فی پسیوری نه . هیقیا سه رکه فتی بیو ته دکه م.....

## بُوْچی ئەق پرس؟

ددھمی نه زانینی دا.. همھر ژنه کا کچھک ببا همھر زوی ب ساخی بن ناخ دکر. بھلی نیرو د چاخی زانین و شورهشا تەکنولوژی و پیشکەفتنا گەلان دھمی واراندا. ھیشتا دیاردا بین بوھاگرنا رەگەزی می مایه دناف گەلهک ژ جەقاکاندا.. بتایبەتی جەقاکین جیهانا سییسی.. تاکو نیروزی دھمی ژن بگیان دکەفن و دروژین داویی دا و د نەخوشخانیقە سەرھارا وی ئازارو و زان و نەخوشیین نافرەت یان ژن تیدا.. خەلکی مالا زەلامی یان زەلام بخو یان مالا ژنی ژ دچاھەرینه و ل ھیفیا وی یەکینه کانی دی ج بیت؟ بھری پرسیارا سلامەتیا ژنی بکەن دی بینن کوره یان کچھ؟ دیسان گەلهک جاران نەھوکەسا بھرسقى بیو خیزانا زەلامی دئینت نەگەر کور بیت دی بیزیت: مزگینی کوره؟ نه ری تا کەنگی نەھ دیاردا نەھ جوان و نەھ مرۆفاتی دی دناف جەقاکی مەدا مینیت؟ نه ری ج جوداھی وەک ھەبۈون و وەک مرۆفە دنافبەرا کورپو کچاندا ھەبیه؟ دبیت گەلهک دبیزند مانی کور یان رەگەزی نیز دی بیتە میراتگری بابی خو، لەوران حەزا ھەمیان ل سەر ھەبۈونا کورانه.. گەلهک ناریشین خیزانی پەيدا بیوونه ژ نەبۈونا نافرەتی ب کوره کی.. نەھ و کەس. یان نەھ و جەقاکی باوھری ب نایانی ئىسلامى ھەبیت.. یان ھم نایینهک دی مافی وی نینه ئەھقە بیو ببیتە ناریشە، چونکى حەزا خودايى مەزن ل سەر ھەبۈونى ھەبیه. دەم دەمی داهینان و ئافاکرەن و پیشکەفتىنی یە قىچا نەھ چەندە ج كچ یان ئافرەت بکەت. یان گەنچ و زەلام بکەن. ج جودا ھی نابیت.. وئىتكى تمامەمەری بی دېیە، ژیان ب تىكەلبۈون و پېتکە ژیانا ھەردوو رەگەزان ھاتىيە ئافاکرەن و دوھارى دايدە. ئەھرۇكە ب دەھان نەمۇونە د جیهانىدا ھەنە کو سەرکىشىا ب ملىيۇنا مرۆڤان ژن یان ئافرەت دەكتەت. دوماهى نەمۇونە بۇقى یەکى نەھ ھەپارتا (سونيا غاندى) ل ھندى مەزنتىن دەنگ دەھەلپەزارتىن داویی بیین ھندى دا ئىستان. و گەلی ھندى کو ب ملىيۇنان دخوازن کو سونيا سەرکىشىا وان بکەت و ببیتە سەرۋەك و دەزىرا ھندى. و دجەقاکى مەدا ژی ب تایبەتى لە داویی ب دەھان ژ ئافرەتىن کورد پلین بلند بیین سیاسى و زانسى بىدەستقە ئىنایانە. زىدەبارى روقى ئافرەتى بىن کارىگەر دېتىدا دام و دەزگەھىن، حکومى و راگەھاندىن و حزبى دا. نەھ ئافرەتىن نەھ ژی دېبىزىن، زارۋەك بۈون و دبیت دەھمی بۈونا واندا باب و دايىك و خیزاننا زەلامىن وان دەللىش و نەرەحەت بۈون. بھلی نەھ قەرۇ بۈويە جەھى شانازى و ناسنامە نەتنى بۇ خیزاننا زەلام وکەس و کارىن خو بەلکو بۈوینە مېنال بۇ تەھاپا جیهانى.. دەمی نه زانینی چوو.. نەھ قەرۇ بلا نەھ وان پرسیارو ھزرىن پاشکەفتى و دزی مرۆفاتى ژ مېشکى خو دەرپىنن. بلا نەھ دئىكەم پرسیارا خودا، بەحسى ساخى و سلامەتیا ئافرەتى بکەين چونکى مرۆفە. نەھ ئىكەم پرسیارا مە نەھ بیت ملى پېزىنپېچىن يان ھم خزمەتكارەکى ل نەخوشخانى بگرین و پېزىنپېچىن تە مزگینى بۆمە ئىنا کوره ک بۈويە؟ بۇچى ما نەگەر كچ ببیت نەمزگینىه !!؟؟ سەلام بالاپى